

6	וְאֶת- اور-کو	אֲשָׁמוּ جرم-کی-قربانی-اپنی	יָבִיא لائے	לִיהוָה یہوواہ-کے-لیے	אֵיל مینڈھا	תְּמִים بے-عیب	מִן-הַצָּאן سے	הַצָּאן بھیڑوں	בְּעֶרְכָּךְ قیمت-کے-مطابق-تیرے
	H0853	H0817	H0935	H3068	H8549	H6629		H6187	

לְאִשָּׁם
جرم-کے-لیے

אֵל-
پاس

הַכֹּהֵן:
کابن-کے

[H0817](#) [H0413](#) [H3548](#)

کی مقدس قیمت کی اُس کرے۔ پیش کو رب اور اُتے لے پاس کے امام مینڈھا مناسب سے لحاظ کے قیمت اور بے عیب ایک وہ پر طور کے قربانی کی قصور جائے۔ کی مقرر مطابق کے شرح

7	וְכִפֹּר اور-کفارہ-دے	עֲלָיו اس-کے-لیے	הַכֹּהֵן کابن	לִפְנֵי حضور	יְהוָה یہوواہ-کے	וְנִסְלַח اور-معاف-ہوگا	לְו اسے	עַל- پر	אֶת ایک	מִכֹּל سب-سے	אֲשֶׁר- جو
	H3548	H6440	H3068	H5545	H3068	H5545		H259	H3605		

יְעֹשֶׂה
کرے

לְאִשָּׁמָה
جرم-کے-لیے

בָּה:
اس-میں

[H0819](#)

گی۔۔۔ جائے مل معافی اُسے تو گا دے کفارہ کا اُس سامنے کے رب امام پھر

8	וַיְדַבֵּר اور-کہا	יְהוָה یہوواہ-نے	אֵל- سے	מֹשֶׁה موسیٰ	לְאֹמַר: کہتے-ہوئے
	H1696	H3068	H0413	H4872	H0559

کہا، سے موسیٰ نے رب

9	צו حکم-دے	אֶת- کو	אֶהְרֹן بارون	וְאֶת- اور-کو	בְּנָיו بیٹوں-کے-اس	לְאֹמַר کہتے-ہوئے	זֹאת یہ	תּוֹרַת شریعت	הָעֹלָה سوختنی-کی	הוּא وہ	הָעֹלָה سوختنی
	H6680	H0853	H0175	H0853	H0559	H2063	H8451		H1931		

עַל پر	מִזְבְּחָהּ انگینھی	עַל- پر	הַמִּזְבֵּחַ مذبح	כָּל- ساری	הַלַּיְלָה رات	עַד- تک	הַבֹּקֶר صبح	וְאֵשׁ اور-آگ	הַמִּזְבֵּחַ مذبح-کی	תּוֹקֵד جلتی-رہے	בּוֹ: اس-میں
	H4169	H4196	H4196	H3605	H3915	H5704	H1242	H0784	H4196	H3344	

اُس کی گاہ قربان تک صبح رات پوری قربانی والی ہونے بھسم دینا: ہدایات کی ذیل میں بارے کے قربانیوں والی ہونے بھسم کو بیٹوں کے اُس اور بارون دینا۔ نہ بجھنے کو آگ ہے۔ جلتی آگ جہاں رہے پر جگ

10	וְלִבְשׁ اور-پہنے	הַכֹּהֵן کابن	מִדּוֹ لباس-اپنا	כִּד کتان	וּמְכַנְסֵי- اور-پاجامے	בְּדוֹ کتان-کے	וְלִבְשׁ پہنے	עַל- پر	בְּשָׂרוֹ جسم-اپنے	וְהָרִים اور-اٹھائے	אֶת- کو
	H3847	H3548	H4055	H0906	H4370	H0906	H3847		H1320		H0853

הַדָּשֵׁן راکہ	אֲשֶׁר جو	תֹּאכְלֵה کھائے	הָאֵשׁ آگ	אֶת- کو	הָעֹלָה سوختنی	עַל- پر	הַמִּזְבֵּחַ مذبح	וְשָׂמוּ اور-رکھے	אֶצֶל پاس	הַמִּזְבֵּחַ: مذبح-کے
H1880	H0398	H0784	H0853		H4196		H4196	H0681	H4196	

ڈالے۔ پر زمین پاس کے گاہ قربان راکھ ہوئی بجی سے قربانی کر پہن پاجامہ کا کتان اور لباس کا کتان امام کو صبح

11	וּפָשַׁט اور-اتارے	אֶת- کو	כִּבְרוֹתָיו کپڑوں-اپنے	וְלִבְשׁ اور-پہنے	בְּגָדִים کپڑے	אֲחֵרִים دوسرے	וְהוֹצִיא اور-نکالے	אֶת- کو	הַדָּשֵׁן راکہ	אֵל- باہر	מִחוּץ باہر
	H6584	H0853	H3847	H0906	H0312	H3318	H0853	H1880	H0413	H2351	

לְמִזְבְּחָהּ
خیمہ-گاہ-سے

אֵל-
پاس

מְקוֹם
جگہ

טְהוֹר:
پاک

[H4264](#) [H0413](#) [H4725](#) [H2889](#)

آئے۔ چھوڑ پر جگہ پاک کسی باہر کے گاہ خیمہ کو راکھ کر بدل کپڑے اپنے وہ پھر

12	וְהֶאֱשׁוּ	עַל-	הַמִּזְבֵּחַ	הַיּוֹקֵד-	בּוֹ	לֹא	תִּכְבְּהוּ	וּבַעֵר	עָלֶיָּהּ	הַכֹּהֵן	עֵצִים	בִּבְקָר
	اور-آگ	پر	مذبح	جلتی-رہے	اس-میں	نہ	بجھے	اور-جلائے	اس-پر	کابن	لکڑیاں	صبح-کو
	H0784		H4196	H3344		H3808	H3518			H3548	H6086	H1242

بִּבְקָר
اور-ترتیب-دے
اس-پر
سوختنی
اور-جلائے
اس-پر
چربی
سلامتی-کی-قربانیوں-کی
H1242
H8002
H2459

کی سلامتی پر اُس اور رکھے سے ترتیب قربانی والی ہونے بہسم پر اُس کر چن لکڑیاں امام صبح بر بجھے۔ نہ بھی کبھی وہ رہے۔ جلتی آگ پر گاہ قربان دے۔ جلا چربی کی قربانی

13	אֵשׁ	תָּמִיד	הַיּוֹקֵד	עַל-	הַמִּזְבֵּחַ	לֹא	תִּכְבְּהוּ:	ס
	آگ	بمیشہ	جلتی-رہے	پر	مذبح	نہ	بجھے	-
	H0784	H8548	H3344		H4196	H3808	H3518	

پائے۔ بجھنے نہ کبھی وہ رہے۔ جلتی ہمیشہ آگ

14	וְזֹאת	תּוֹרַת	הַמִּזְבֵּחַ	הַקָּרֹב	אֲתָהּ	בְּנֵי-	אֲהֲרֹן	לִפְנֵי	יְהוָה	אֵל-	פָּנָי	הַמִּזְבֵּחַ:
	اور-یہ	شریعت	نذر-کی	قريب-لانا	اسے	بیٹوں-نے	باروں-کے	حضور	یہوواہ-کے	سامنے	سامنے	مذبح-کے
	H2063	H8451	H4503	H7126	H0853		H0175	H6440	H3068	H0413	H6440	H4196

کریں۔ پیش کو رب سامنے کے گاہ قربان اُسے بیٹے کے باروں ہیں: یہ ہدایات میں بارے کے نذر کی غلہ

15	וְהָיִים	מוֹזְנֵוּ	בְּקִמּוֹצוֹ	מִסֹּלֶת	הַמִּזְבֵּחַ	וּמִשְׁמֹנֶהּ	וְאֵת	כָּל-	הַלֶּבְנָה	אֲשֶׁר
	اور-اتھائے	اس-سے	مٹھی-اپنی-میں	میدے-سے	نذر-کے	اور-تیل-کے-اس	اور-کو	سارے	لوبان	جو
			H7062	H5560	H4503	H8081	H0853	H3605	H3828	

عַל-
پر
نذر
اور-جلائے
مذبح-پر
خوشبو
سکون-بخش
یادگار-اس-کی
یہوواہ-کے-لیے
H4503
H4196
H7381
H5207
H0234
H3068

ہے۔ پسند کو رب خوشبو کی اس دے۔ جلا پر گاہ قربان کر لے اُن تمام کا قربانی اور میدہ بہترین بھر مٹھی گیا ملایا سے تیل یعنی حصہ کا یادگار امام پھر

16	וְהַנּוֹתְרֹת	מִזְבֵּחַ	יֹאכְלוּ	אֲהֲרֹן	וּבְנָיו	מִצּוֹת	הָאֲכָלָה	בְּמִקּוֹם	קֹדֶשׁ	בַּחֲצֵר
	اور-باقی	اس-سے	کھائیں	باروں	اور-بیٹے-کے-اس	بے-خمیر	کھائی-جائے	جگہ-میں	مقدس	صحن-میں
	H3498		H0398	H0175		H4682	H0398	H4725	H6918	

אֶהֱל-
خیمہ
اجتماع-کے
کھائیں-اسے
H0168
H4150
H0398

میں اُس اور کھائیں، اندر کے چاردیواری کی خیمے کے ملاقات یعنی پر جگہ مُقَدَّس اُسے وہ لیکن لیں۔ کھا حصہ باقی کا قربانی بیٹے کے اُس اور باروں ہو۔ نہ خمیر

17	לֹא	תֹאפְהוּ	חֵמִיץ	חֲלָקִים	נִתְתִי	אֲתָהּ	מֵאֲשִׁי	קֹדֶשׁ	קֹדְשִׁים	הוּא
	نہ	پکائی-جائے	خمیر	حصہ-ان-کا	دیا-میں-نے	اسے	آتشین-قربانیوں-سے-میری	قدس	اقدس	وہ
	H3808	H0644			H5414	H0853	H0801	H6944	H6944	H1931

בְּחֻטָּאת
گناہ-کی-قربانی-کی-طرح
اور-جرم-کی-قربانی-کی-طرح
H0817

کی قصور اور قربانی کی گناہ یہ ہے۔ کیا مقرر لے کے اُن حصہ یہ سے میں قربانیوں والی جلنے نے مِس جائے۔ ڈالا نہ خمیر میں اُس لے کے پکانے اُسے ہے۔ مُقَدَّس نہایت طرح کی قربانی

18	כָּל- בר	זָכָר مرد	בְּבִנְי بیٹوں-میں	אֶהְרֹן بارون-کے	יֹאכֶזְבֶּד کھائے-اسے	חֶק- فرض	עֹלָם ابدی	לְדֹרֹתֵיכֶם نسلوں-کے-لیے-تمہاری	מֵאֲשֵׁי آتشین-قربانیوں-سے
	H3605	H2145	H0175	H0398	H2706	H5769	H1755	H0801	

יְהוָה یہوواہ-کی	כָּל بر	אֲשֶׁר- جو	יָנַע جھوٹے	בָּהֶם ان-کو	יִקְדֹּשׁ: مقدس-ہوگا	פ -
H3068	H3605	H5060	H6942			

گا۔ [] جائے ہو مُقَدَّس و مخصوص وہ گا جھوٹے اُسے بھی جو رہے۔ قائم تک ابد اصول یہ کھائیں۔ اُسے مرد تمام کے اولاد کی بارون

19	וַיְדַבֵּר اور-کہا	יְהוָה یہوواہ-نے	אֶל- سے	מֹשֶׁה موسی	לְאֹמַר: کہتے-ہوئے
	H1696	H3068	H0413	H4872	H0559

کہا، سے موسیٰ نے رب

20	זֶה یہ	קָרְבָּן قربانی	אֶהְרֹן بارون	וּבָנָיו اور-بیٹوں-کے-اس	אֲשֶׁר- جو	יִקְרִיבוּ تقریب-کریں	לְיְהוָה یہوواہ-کے-لیے	בַּיּוֹם دن-میں	הַמִּשְׁחָה مسح-کے	אֲתוֹ اس-کے
	H2088	H0175	H0175	H7126	H3068	H3117	H4886	H0853		

עֲשִׂיֹרֶת دسواں	הָאֵפֶה ایفہ-کا	סֶלֶת میدہ	מִנְחָה نذر	תָּמִיד ہمیشہ	מִחֲצִיתָהּ آدھا-اس-کا	בִּבְקָר صبح-کو	וּמִחֲצִיתָהּ اور-آدھا-اس-کا	בַּעֲרָב: شام-کو
H6224	H0374	H5560	H4503	H8548	H4276	H1242	H4276	H6153

پیش میدہ بہترین گرام کلو ڈیڑھ وہ تو گا جائے کیا مسح سے تیل کے کر مخصوص لئے کے اُنھانے داری ذمہ کی امام کو بیٹوں کے اُس اور بارون [] جب کریں۔ پیش روزانہ نذر یہ کی غلہ وہ جائے۔ کیا پیش وقت کے شام حصہ آدھا اور کو صبح حصہ آدھا کا اُس کریں۔

21	עַל- پر	מִחֲבַת توے	בְּשֶׁמֶן تیل-میں	הַעֲשָׂה بنائی-جائے	מְרֻבֶּכֶת گندھی-ہوئی	תְּבִיאָנָה لائے-گا-اسے	תְּפִינִי پکی-ہوئی	מִנְחַת نذر	פְּתִים نکڑوں-کی	תִּקְרִיב تقریب-کرے-گا
	H4227	H8081	H7246	H0935	H8601	H4503	H7126			

רִיחַ- خوشبو	נִיחֹחַ سکون-بخش	לְיְהוָה: یہوواہ-کے-لیے
H7381	H5207	H3068

ہے۔ پسند کو رب خوشبو کی اُس کرنا۔ پیش پر طور کے نذر کی غلہ کے کر ٹکڑے ٹکڑے اُسے پھر ہے۔ پکانا پر توے کر ملا ساتھ کے تیل اُسے

22	וְהִכֹּלֵן اور-کابن	הַמִּשְׁחָה مسح-شدہ	תַּחֲתָיו جگہ-اس-کی	מִבְּנָיו بیٹوں-سے-اس-کے	יַעֲשֶׂה بنائے	אֶתָּה اسے	חֶק- فرض	עֹלָם ابدی	לְיְהוָה یہوواہ-کے-لیے	כָּלִיל ساری
	H3548	H4899	H8478	H3632	H1961	H3808	H2706	H5769	H3068	H3632

تְּקַטֵּר:
جلانی-جائے

دے۔ جلا لئے کے رب پر طور پورے اُسے وہ اور ہے، گیا دیا غُہدہ کا اعظم امام کے کر مسح جسے کرے پیش آدمی وہ کا نسل کی بارون ہمیشہ قربانی یہ

23	וְכָל- اور-ہر	מִנְחַת نذر	כֹּהֵן کابن-کی	כָּלִיל ساری	הַזֹּהֵב ہو	לֹא نہ	תֹּאכַל: کھائی-جائے	פ -
	H3605	H4503	H3548	H3632	H1961	H3808	H0398	

کھانا۔ [] نہ اُسے جلانا۔ پر طور پورے ہمیشہ نذر کی غلہ کی امام

24	וַיְדַבֵּר اور-کہا	יְהוָה یہوواہ-نے	אֶל- سے	מֹשֶׁה موسی	לְאֹמַר: کہتے-ہوئے
	H1696	H3068	H0413	H4872	H0559

کہا، سے موسیٰ نے رب

